

پری اپر پرائمری اسکالرشپ امتحان برائے پنجم جماعت، مئی 2021

نشست نمبر

0 2 0 1

سیٹ

A

پرچہ نمبر : I
کل صفحات : 32

میڈیم : اُردو
مضمون : زبانِ اوّل (اُردو) اور علمِ ریاضی

وقت : 11 : 00 سے 12 : 30

کل نمبرات : 150

سوالیہ پرچہ حل کرنے سے پہلے دی گئی ہدایات کو غور سے پڑھیے۔

- (1) اس سوالیہ پرچہ کے دو حصے ہیں۔ حصہ ”I“ میں زبانِ اوّل (اُردو) کے لیے 1 سے 25 اور حصہ ”II“ میں علمِ ریاضی کے لیے 26 سے 75 ایسے کل 75 سوالات ہیں۔ تمام سوالات حل کرنا لازمی ہیں۔
 - (2) ہر سوال کے لیے دو (2) نمبرات ہیں۔
 - (3) سوالیہ پرچہ حل کرنے کے لیے کل 90 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔
 - (4) جواب کا اندراج کرنے کے لیے الگ سے جوابی پرچہ دیا گیا ہے۔ ہر سوال نمبر کے سامنے چار متبادلات کے لیے ترتیب وار چار دائرے دیے گئے ہیں۔ اس میں صحیح متبادل والے دائرہ کو دی گئی مثال کے مطابق رنگ بھرنا ہے۔
- مثال : سوال نمبر 6 کے صحیح جواب کا متبادل نمبر 2 ہو تو اسے اس طرح درج کریں :
- سوال نمبر 6 : ① ● ③ ④
- ذیل کے مطابق درج کیے گئے جوابات قبول نہیں کیے جائیں گے۔
- ① ✗ ② ● ③ ● ④ ✗
- (6) ہر سوال کے جواب کے لیے ایک سے زیادہ رنگے ہوئے دائرے، کانٹ چھٹا کیے ہوئے جوابات قبول نہیں کیے جائیں گے۔
 - (7) ایک مرتبہ درج کیا ہوا جواب تبدیل نہیں کیا جاسکے گا۔
 - (8) متبادل دائروں کو بھرتے وقت صرف کالی (سیاہ) یا نیلی بال پین کا استعمال کریں۔ پینسل سے بھرے گئے جوابات ناقابل قبول ہوں گے۔
 - (9) سوالیہ پرچہ میں ہر صفحہ کے پگلی جانب اور پرچہ کے آخری صفحے پر فام کے لیے جگہ مہیا کی گئی ہے۔ اسی جگہ پر فام کام کیا جائے۔
 - (10) امتحان کے لیے وقت محدود ہے اس لیے اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا ہو تو اگلا سوال حل کریں۔ آخر میں وقت بچنے پر بقیہ سوالات حل کرنے کی کوشش کریں۔
 - (11) اگر کسی سوال میں خامی / غلطی ہو تو اس کی پوچھ تاچھ ’ سپروائزر ’ یا ’ سینئر انچارج ’ سے نہ کریں۔
 - (12) سوال میں کوئی خامی / غلطی / اعتراض ہو تو اسکول یا سرپرست اس کی تحریری شکایت B. E. O. یا ایجوکیشن آفیسر کو نہ بھیجتے ہوئے براہ راست متعلقہ اسکول Login (لاگ ان) سے آن لائن بھیجے۔
 - (13) خامی / غلطی / اعتراض سے متعلق تحریری شکایت آن لائن روانہ کرنے کی مدت پریکٹس پریشرنگ کی ویب سائٹ پر جوابات شائع کرنے کے بعد دس دنوں تک رہے گی۔
 - (14) طباعت کی غلطی یا دیگر وجوہات کی وجہ سے اگر سوال میں کوئی غلطی سرزد ہوگی تو ماہرین کی کمیٹی کی آراء کے مطابق مناسب کارروائی کی جائے گی۔
 - (15) اردو زبان کے ساتھ انگریزی زبان میں سوالیہ پرچہ دیا گیا ہے۔ اردو زبان کے مشکوک سوالات کے لیے انگریزی زبان میں دیا ہوا سوال دیکھیے۔

SECTION-I

اردو زبان دانی

سوال نمبر 1 تا 3 : درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کیجیے اور نیچے دیے ہوئے سوالات کے جوابات متبادلات میں سے منتخب کیجیے۔

شیخ محمد اقبال ۹ نومبر ۱۸۷۷ء کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ نور محمد کے دو بیٹے تھے، ایک عطا محمد اور دوسرے محمد اقبال۔ عطا محمد، اقبال سے سترہ اٹھارہ سال بڑے تھے۔ اس زمانے میں مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے سخت مخالف تھے لیکن شیخ نور محمد پرانے خیال کے آدمی نہ تھے۔ انھوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو انگریزی تعلیم بھی دلوائی۔

اقبال کے استاد مولوی میر حسن نے انھیں خاص طور پر فارسی کے بڑے شاعروں کا کلام پڑھایا۔ ’گلستان‘، ’بوستان‘ اور ’انوارِ سہیلی‘ وغیرہ کتابیں مولوی صاحب نے انھیں اس طرح پڑھائیں کہ اقبال کے دل میں فارسی ادب کی قدر بڑھ گئی۔ اقبال نے کم عمری ہی میں شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ مولوی صاحب نے جب اقبال کے اشعار سنے تو بہت خوش ہوئے۔ انھوں نے اپنے شاگرد کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ اس زمانے میں ہندوستان میں اردو کے مشہور شاعر داغ دہلوی کی بڑی شہرت تھی۔

1. علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے؟

- | | | | |
|-----|-----------|-----|---------|
| (1) | راول پنڈی | (2) | لاہور |
| (3) | دہلی | (4) | سیالکوٹ |

2. اقبال کے استاد کون تھے؟

- | | | | |
|-----|---------------|-----|------------|
| (1) | عطا محمد | (2) | شیخ محمد |
| (3) | مولوی میر حسن | (4) | مولوی حسین |

3. اقبال کے دل میں فارسی ادب کی قدر کیسے بڑھی؟

- | | |
|-----|---|
| (1) | مولوی صاحب کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرنے پر |
| (2) | مولوی صاحب کے سزا دینے پر |
| (3) | ’گلستان‘، ’بوستان‘ اور ’انوارِ سہیلی‘ وغیرہ کتابیں مولوی صاحب سے پڑھنے کے بعد |
| (4) | مولوی صاحب کو اشعار سنانے کے بعد |

رف کام کے لیے خالی جگہ

سوال نمبر 4 تا 6 : درج ذیل نظم پڑھ کر نیچے دیے ہوئے سوالات کے جوابات متبادلات میں سے تلاش کیجئے۔

کتابوں سے ہم کو جو نفرت نہ ہوتی
ہمیں اس طرح آج رونا نہ پڑتا
اگر خالقِ دو جہاں عقل دیتا
ہم استاد سے کس لیے مار کھاتے
خفا کس لیے باپ ماں ہم سے ہوتے
نصیحت بزرگوں کی ہم مانتے جب
بھلا فیل کیوں ہوتے ہم امتحاں میں
جہاں میں نہ ہوتے ذلیل اور رسوا
اگر پاس ہو جاتے ہم امتحاں میں

ہماری کبھی ایسی حالت نہ ہوتی
اگر پڑھنے لکھنے میں غفلت نہ ہوتی
بزرگوں سے ہم کو عداوت نہ ہوتی
ہماری اگر کچھ شرارت نہ ہوتی
اگر جھوٹ کہنے کی عادت نہ ہوتی
ہمیں ساتھیوں میں ندامت نہ ہوتی
فقط کھیل سے جب محبت نہ ہوتی
مقدّر میں اپنے جہالت نہ ہوتی
غمِ دل سنانے کی حاجت نہ ہوتی

جسے ہوش آتا نہیں ٹھوکروں سے
کبھی اُس کی دُنیا میں عزّت نہ ہوتی

4. نظم میں استاد کی مار کھانے کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟

- (1) شرارت کرنا
(2) گھر کام نہ کرنا
(3) جماعت میں سونا
(4) دیر سے اسکول پہنچنا

5. انسان کو دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کب کرنا پڑتا ہے؟

- (1) ندامت کی وجہ سے
(2) جہالت کی وجہ سے
(3) فقط کھیل سے محبت کرنے کی وجہ سے
(4) بزرگوں کی عداوت کی وجہ سے

6. ماں باپ کس عادت سے خفا ہوتے ہیں؟

- (1) جھوٹ کہنے کی عادت سے
(2) پڑھنے لکھنے میں غفلت کرنے پر
(3) فیل ہونے پر
(4) استاد کی مار کھانے پر

رف کام کے لیے خالی جگہ

7. درج ذیل جملے میں ضمیر شخصی پہچانیے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ مکے میں پیدا ہوئے۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے؟

- (1) حضرت ابو بکر صدیقؓ میں
(2) وہ پیدا ہوئے

8. درج ذیل متبادلات میں سے مذکر۔ مونث کی غلط جوڑیاں پہچانیے۔

- (1) دادا۔ دادی
(2) خادم۔ خادمہ
(3) عالم۔ عالمہ
(4) استاد۔ استادنہ

9. درج ذیل جملہ پڑھ کر زمانہ کی قسم پہچانیے۔

”دہلی میں ایک بڑے نامی حکیم تھے۔“

- (1) زمانہ ماضی
(2) زمانہ مستقبل
(3) زمانہ حال
(4) زمانہ حال ناتمام

10. ”اچھا بھیا □ میرا کھیت جوت دو۔“ اس جملے میں خالی چوکون میں درج ذیل میں سے کونسی علامت اوقاف درست ہوگی؟

- (1) !
(2) ؛
(3) ،
(4) ؟

11. درج ذیل جملے میں مبتدا پہچانیے۔

اظہر کرکٹ کھیلتا ہے۔

- (1) کھیلتا
(2) ہے
(3) کرکٹ
(4) اظہر

رف کام کے لیے خالی جگہ

12. درج ذیل محاورے کا صحیح مطلب متبادلات میں سے تلاش کیجیے۔

تھالی کا بیگن

- | | | | |
|-----|------------|-----|----------------|
| (1) | دھوکا دینا | (2) | غیر مستقل مزاج |
| (3) | تہمت لگانا | (4) | لعنت بھیجنا |

13. درج ذیل کہاوت مناسب متبادل چن کر مکمل کیجیے۔

ساون کے اندھے کو -----

- | | | | |
|-----|-------------------------|-----|-----------------------|
| (1) | ہرا بھرا دکھائی دیتا ہے | (2) | ہرا ہی ہرا سو جھتا ہے |
| (3) | ہریالی نظر آنا | (4) | ہمراہ بنانا |

سوال نمبر 14 تا 16 کے لیے ہدایت:- مربوط جملوں پر مبنی اقتباس مکمل کیجیے۔

14. ماتھیران میں ہر طرف ----- نظر آتی ہے۔

- | | | | |
|-----|--------------|-----|------------------|
| (1) | گھاس ہی گھاس | (2) | خوشیاں |
| (3) | سبزی ترکاری | (4) | ہریالی ہی ہریالی |

15. اس ہریالی میں لال مٹی کے ----- بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں۔

- | | | | |
|-----|------|-----|--------|
| (1) | قلعے | (2) | راستے |
| (3) | برتن | (4) | کھلونے |

16. ان راستوں پر ----- پیدل یا ہاتھ رکشا پر آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔

- | | | | |
|-----|-------|-----|------|
| (1) | گھوڑے | (2) | سیاح |
| (3) | جانور | (4) | بزرگ |

رف کام کے لیے خالی جگہ

17. ”کی بورڈ (key board)“ اس لفظ کے لیے اردو لفظ متبادلات میں سے تلاش کیجیے۔

- | | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (1) | محاسب | (2) | لائحہ کار |
| (3) | تختہ کلید | (4) | تختی |

18. درج ذیل متبادلات میں سے کونسا لفظ ”چاند“ کا ہم معنی لفظ نہیں ہے۔

- | | | | |
|-----|-----|-----|-------|
| (1) | مہر | (2) | قمر |
| (3) | ماہ | (4) | مہتاب |

19. درج ذیل متبادلات میں سے متضاد الفاظ کی غلط جوڑی پہچانیے۔

- | | | | |
|-----|--------------|-----|-------------|
| (1) | خوشخط - بدخط | (2) | فتح - شکست |
| (3) | رحمدل - جاہل | (4) | سختی - بخیل |

20. درج ذیل لفظوں کے مجموعے کے لیے مناسب لفظ متبادلات میں سے تلاش کیجیے۔

”تقریر کرنے والا“

- | | | | |
|-----|-------|-----|-------|
| (1) | مصوّر | (2) | موڈن |
| (3) | مدّرس | (4) | مقرّر |

21. جاندار اور ان کے مکان کی صحیح جوڑی متبادلات میں سے تلاش کیجیے۔

- | | | | |
|-----|---------------|-----|-------------|
| (1) | غریب - محل | (2) | فقیر - تکیہ |
| (3) | ریشی - خانقاہ | (4) | صوفی - کٹیا |

رف کام کے لیے خالی جگہ

22. ”فسانہ آزاد“ اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟

- (1) مولوی محمد حسین آزاد
(2) پنڈت دیانکر نسیم
(3) پنڈت رتن ناتھ سرشار
(4) سرسید احمد خاں

23. درج ذیل حروف جوڑ کر بمعنی لفظ بنائیے اور اس کا چوتھا حرف پہچانیے۔


ی ر خ ش و د

- (1) ر
(2) د
(3) و
(4) ش

24. ”پاٹھا“ درج ذیل متبادلات میں سے کس جانور کا بچہ ہے؟

- (1) ہاتھی
(2) اُلو
(3) اونٹ
(4) بارہ سنگھا

25. خالی چوکون میں کونسا متبادل چننے پر چاروں بمعنی الفاظ ہوں گے؟



- (1) ڈر
(2) ٹر
(3) ور
(4) خم

رف کام کے لیے خالی جگہ

SECTION - II**MATHEMATICS**

26. How will you write 500 in Roman numerals?
(1) L (2) C
(3) D (4) M
27. What is the place value of '4' in 10.345?
(1) 0.004 (2) 40
(3) 400 (4) 0.04
28. If $\square 2575 - \square 836 = 28739$, then which digit will be in the box?
(1) 2 (2) 3
(3) 5 (4) 6
29. If the lengths of the sides of an angle are increased, then how does it affect the measure of the angle?
(1) measure of the angle increases
(2) measure of the angle decreases
(3) measure of the angle remains the same
(4) measure of the angle is doubled
30. $5\frac{3}{7} + 6\frac{4}{7} = \square$
(1) $11\frac{7}{14}$ (2) $11\frac{7}{49}$
(3) 12 (4) $\frac{39}{7}$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION - II**ریاضی**

26. 500 اس عدد کو رومن ہندسی عدد میں کس طرح لکھا جاتا ہے؟

- C (2) L (1)
M (4) D (3)

27. 10.345 اس عدد میں 4 اس عدد کی مقامی قیمت کیا ہوگی؟

- 40 (2) 0.004 (1)
0.04 (4) 400 (3)

28. $836 = 28739 - 2575$ ہو تو میں کون سا ہندسہ آئے گا۔

- 3 (2) 2 (1)
6 (4) 5 (3)

29. زاویہ کے دونوں ساقین بڑھانے سے زاویہ کی پیمائش میں کیا فرق آتا ہے؟

- (1) زاویہ کی پیمائش بڑھتی ہے۔
(2) زاویہ کی پیمائش کم ہوتی ہے۔
(3) زاویہ کی پیمائش اتنی ہی رہتی ہے۔
(4) زاویہ کی پیمائش دوگنا ہوتی ہے۔

30. $5\frac{3}{7} + 6\frac{4}{7} =$ کتنے؟

- $11\frac{7}{49}$ (2) $11\frac{7}{14}$ (1)
 $\frac{39}{7}$ (4) 12 (3)

رف کام کے لیے خالی جگہ

31. Write the number in figures,
'Eight abja eighty thousand eight hundred and eight'.
- (1) 8,08,00,808 (2) 8,00,80,808
(3) 80,00,80,808 (4) 8,00,00,80,808
32. Length of the radius of a circle is 2.5cm and length of a chord of the circle is 3cm. What is the length of the longest chord of the circle in cm?
- (1) 6 (2) 5
(3) 3 (4) 5.5
33. How many composite numbers lie between 1 to 100?
- (1) 75 (2) 25
(3) 24 (4) 74
34. What type of angle will be formed, if two lines are perpendicular to each other?
- (1) obtuse (2) right
(3) acute (4) reflex angle
35. If the numbers 32996, 39296, 229997, 39096 are written in descending order, then what will be the sum of the first and third number in that arrangement?
- (1) 269093 (2) 72292
(3) 269293 (4) 262993

SPACE FOR ROUGH WORK

31. آٹھ ارب اسی ہزار آٹھ سو آٹھ کو ہندسوں میں لکھیے۔

- | | | | |
|----------------|-----|--------------|-----|
| 8,00,80,808 | (2) | 8,08,00,808 | (1) |
| 8,00,00,80,808 | (4) | 80,00,80,808 | (3) |

32. دائرہ کا نصف قطر 2.5 سم اور وتر 3 سم ہو تو دائرے کے سب سے بڑے وتر کی لمبائی کیا ہوگی؟

- | | | | |
|--------|-----|------|-----|
| 5 سم | (2) | 6 سم | (1) |
| 5.5 سم | (4) | 3 سم | (3) |

33. 1 سے 100 تک گنتی کے اعداد میں کل کتنے مرکب اعداد ہیں؟

- | | | | |
|----|-----|----|-----|
| 25 | (2) | 75 | (1) |
| 74 | (4) | 24 | (3) |

34. دو خطوط ایک دوسرے پر عمود ہو تو وہ کونسے قسم کا زاویہ بناتے ہیں؟

- | | | | |
|-------------|-----|--------------|-----|
| زاویہ قائمہ | (2) | زاویہ منفرجہ | (1) |
| زاویہ مکڑرہ | (4) | زاویہ حادہ | (3) |

35. 32996, 39296, 229997, 39096

اوپر دیئے ہوئے اعداد کو اترتی ترتیب میں لکھنے پر پہلے اور تیسرے عدد کی حاصل جمع کیا ہوگی؟

- | | | | |
|--------|-----|--------|-----|
| 72292 | (2) | 269093 | (1) |
| 262993 | (4) | 269293 | (3) |

رف کام کے لیے خالی جگہ

36. If the circumference of a circle - shaped garden is 88m and Swara takes 5 rounds to the garden daily; Then how much distance does she cover in a week?
- (1) 3080 km (2) 380 km
(3) 3.08 km (4) 3.8 km
37. By how much is the sum of biggest 5-digit number and biggest 2-digit number is greater than the smallest 3-digit number?
- (1) 1,00,098 (2) 99,998
(3) 99,999 (4) 1,00,198
38. Pradeep bought a mobile for Rs. twenty two and a half thousand and sold the same for Rs. nineteen thousand eight hundred and seventy. How much was his loss?
- (1) Rs. 2880 (2) Rs. 2600
(3) Rs. 2630 (4) Rs. 3000
39. $\frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \square$
- (1) $\frac{24}{18}$ (2) $\frac{20}{3}$
(3) $\frac{24}{9}$ (4) 8
40. Swarda deposited Rs. 25,000 in a bank at a rate of 8 p.c.p.a for 6 years. How much interest will she receive after 6 years?
- (1) Rs. 12,000 (2) Rs. 2,000
(3) Rs. 1,500 (4) Rs. 1,200

SPACE FOR ROUGH WORK

36. ایک دائرہ نما باغ جس کا محیط 88 میٹر ہو اس پر فاطمہ روزانہ 5 مرتبہ چکر لگاتی ہو تو اس نے ایک ہفتہ میں کل کتنے کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا؟

- (1) 3080 کلومیٹر
(2) 380 کلومیٹر
(3) 3.08 کلومیٹر
(4) 3.8 کلومیٹر

37. بڑے سے بڑا پانچ ہندسی عدد اور بڑے سے بڑا دو ہندسی عدد کے حاصل جمع، چھوٹے سے چھوٹا تین ہندسی عدد سے کتنا زیادہ ہوگی؟

- (1) 1,00,098
(2) 99,998
(3) 99,999
(4) 1,00,198

38. اکبر نے ساڑھے بائیس ہزار روپے میں خریدا ہوا موبائل اُنیس ہزار آٹھ سو ستر روپے میں فروخت کیا۔ تو اس سودے میں اسے کتنے روپے کا نقصان ہوا؟

- (1) 2880 روپے
(2) 2600 روپے
(3) 2630 روپے
(4) 3000 روپے

39. کتنے $\frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} =$

- (1) $\frac{24}{18}$
(2) $\frac{20}{3}$
(3) $\frac{24}{9}$
(4) 8

40. اشرف نے 8 فی صدی فی سال کی شرح سے ایک بینک میں 25,000 روپے 6 سال کے لئے رکھ دیئے، تو 6 سال بعد اُسے کتنے روپے سود ملے گا؟

- (1) 12,000 روپے
(2) 2,000 روپے
(3) 1,500 روپے
(4) 1,200 روپے

رف کام کے لیے خالی جگہ

41. If the fractions, $\frac{7}{9}, \frac{5}{9}, \frac{2}{9}, \frac{8}{9}$ are arranged in ascending order, then what will be the sum of first and third fraction in that arrangement?

- (1) 1 (2) $\frac{14}{9}$
(3) $\frac{14}{81}$ (4) $\frac{5}{18}$

42. While writing the number, 'Seventy lakhs and Seven' in figures, Ishwari wrote one zero less between the two sevens. Then by how much is the number that Ishwari wrote is more or less than the given number?

- (1) more by 77,00,014 (2) less by 77,00,014
(3) more by 63,00,000 (4) less by 63,00,000

43. Which is the biggest fraction among the following?

- (1) $\frac{8}{10}$ (2) $\frac{8}{100}$
(3) $\frac{8}{1000}$ (4) $\frac{8}{10,000}$

44.
$$\begin{array}{r} x \ y \ y \ z \\ + \ x \ z \ z \ y \\ \hline y \ y \ y \ y \end{array}$$

Which digits will be there for x , y and z respectively?

- (1) 4, 3, 0 (2) 2, 4, 2
(3) 3, 6, 2 (4) 4, 8, 0

SPACE FOR ROUGH WORK

41. ان کسروں کو چڑھتی ترتیب میں لکھنے پر پہلے اور تیسرے کسروں کی جمع کتنی ہوں گی؟ $\frac{7}{9}, \frac{5}{9}, \frac{2}{9}, \frac{8}{9}$

$\frac{14}{9}$ (2) 1 (1)

$\frac{5}{18}$ (4) $\frac{14}{81}$ (3)

42. ”ستر لاکھ سات“ اس عدد کو لکھتے وقت ارکان نے دونوں سات کے درمیان میں ایک صفر کم لکھا۔ تو اس نے لکھا ہوا عدد دئیے ہوئے

عدد سے کتنا کم یا زیادہ ہوگا؟

77,00,014 سے زیادہ (1) 77,00,014 سے کم (2)

63,00,000 سے زیادہ (3) 63,00,000 سے کم (4)

43. مندرجہ ذیل کسروں میں سب سے بڑی کسر کونسی ہے؟

$\frac{8}{100}$ (2) $\frac{8}{10}$ (1)

$\frac{8}{10,000}$ (4) $\frac{8}{1000}$ (3)

44. ہو تو $x \ y \ y \ z$

$+ \ x \ z \ z \ y$

$\frac{y \ y \ y \ y}{y \ y \ y \ y}$

x, y, z کی جگہ بالترتیب کونسے ہندسے آئیں گے؟

2, 4, 2 (2) 4, 3, 0 (1)

4, 8, 0 (4) 3, 6, 2 (3)

رف کام کے لیے خالی جگہ

45. قیمت خرید بیس سواری روپے اور قیمت فروخت چوتیس سوستر روپے ہو تو اس سودے میں کتنا نفع یا نقصان ہوگا؟

- (1) 180 روپے نفع
(2) 190 روپے نقصان
(3) 190 روپے نفع
(4) 170 روپے نقصان

46. مندرجہ ذیل اشکال میں کونسی شکل $\frac{12}{60}$ اس کسر کے ہم قیمت کسر کو بتلاتی ہے؟



47. گروہ میں شامل نہ ہونے والا متبادل تلاش کیجئے۔

- (1) $7 \times 7 \div 7 \times 5 = 35$
(2) $12 - 3 - 5 + 10 = 14$
(3) $5 \times 3 + 4 \times 2 = 70$
(4) $10 - 2 \times 3 + 5 = 9$

48. روشنی نے اپنی پڑھائی صبح ساڑھے گیارہ بجے شروع کی اور پونے دو بجے ختم کی تو روشنی نے کتنا وقت پڑھائی میں لگایا؟

- (1) 3 گھنٹے 70 منٹ
(2) 2 گھنٹے 45 منٹ
(3) 2 گھنٹے 15 منٹ
(4) 2 گھنٹے 30 منٹ

49. سب سے بڑے تین ہندسی جفت عدد اور سب سے بڑے دو ہندسی مفرد عدد میں کتنا فرق ہوگا؟

- (1) 900
(2) 901
(3) 902
(4) 903

رف کام کے لیے خالی جگہ

50. One of the Zilla Parishad schools have 60% girls out of 120 and a private secondary school of the same village has 55% girls out of 200. Find out the total number of girls in that village going to school?
- (1) 172 (2) 38
(3) 182 (4) 110
51. What number should be subtracted from six and three quarters thousand to get the biggest two digit number ?
- (1) 6751 (2) 6651
(3) 7026 (4) 7126
52. Julie collected Rs. 10 daily in her money bank from 12th May to 26th June. Also she added Rs. 100 given by her uncle and Rs. 240 given by her father to buy a cake for her birthday. She donated the total amount to Chief Minister Relief Fund. How much money did she donate to the Chief Minister Relief Fund?
- (1) Rs. 790 (2) Rs. 350
(3) Rs. 800 (4) Rs. 780
53. Jeevan went to a bank with two notes of each Rs. 50, Rs. 100 and Rs. 500. He asked for notes of Rs. 20 in return. How many notes of Rs. 20 will he receive?
- (1) 60 (2) 65
(3) 55 (4) 63
54. Find such a number which when multiplied by itself the product we get is equal to the product of all the divisors of 27.
- (1) 529 (2) 27
(3) 9 (4) 18

SPACE FOR ROUGH WORK

50. ضلع پربند کے ایک مدرسہ میں 120 طالب علموں میں سے 60% لڑکیاں ہیں۔ اسی گاؤں میں ایک ذاتی ثانوی مدرسہ میں 200 طالب علموں میں سے 55% لڑکیاں ہیں۔ تو اس گاؤں میں کل کتنی لڑکیاں مدرسہ میں جاتی ہیں؟

(1) 172 (2) 38

(3) 182 (4) 110

51. پونے سات ہزار میں سے کتنا نفی کرنے پر حاصل جواب بڑے سے بڑا دو ہندسی عدد آئے گا؟

(1) 6751 (2) 6651

(3) 7026 (4) 7126

52. عرفیہ نے 12 مئی سے 26 جون کے دوران ایک منی بینک میں روزانہ 10 روپے کے حساب سے جمع کی ہوئی رقم اور اس میں ماموں نے اس کی سالگرہ پر دیئے ہوئے 100 روپے اور ابا نے پیک کے لئے دیئے ہوئے 240 روپے ڈال کر وہ پوری رقم اس نے وزیر اعلیٰ امدادی فنڈ میں جمع کرائی۔ تو بتائیے عرفیہ نے وزیر اعلیٰ امدادی فنڈ میں کل کتنی رقم جمع کرائی؟

(1) 790 روپے (2) 350 روپے

(3) 800 روپے (4) 780 روپے

53. حذیفہ نے ایک بینک میں 50 روپے، 100 روپے اور 500 روپے، ہر ایک کے دو نوٹ جمع کیے۔ اس نے اتنی ہی قیمت کے 20 روپے کے نوٹ طلب کیے۔ تو بتائیے اسے 20 روپے کے کتنے نوٹ ملیں گے؟

(1) 60 (2) 65

(3) 55 (4) 63

54. ایسا عدد تلاش کیجئے کہ اس عدد کو اسی عدد سے ضرب دینے پر آنے والا حاصل ضرب یہ 27 کے تمام عاقد کے حاصل ضرب کے برابر ہوگا؟

(1) 529 (2) 27

(3) 9 (4) 18

رف کام کے لیے خالی جگہ

55. Solve : $27 \div 3 + 6 \times 5 = ?$

(1) 75

(2) 15

(3) 39

(4) $\frac{27}{33}$

56. Dhanesh bought one and a quarter meter of cloth for pants and one and three quarters meter of cloth for shirt. How much meter of cloth did he buy?

(1) three

(2) three and a quarter

(3) two and a half

(4) three and three quarters

57. Soham was born on 15th June, 2011, which was Thursday. Which was the day on his 5th birthday?


(1) Tuesday

(2) Thursday

(3) Wednesday

(4) Friday

58. Find the percentage of the shaded portion in the following diagram.



(1) 2 %

(2) 25 %

(3) 6 %

(4) 75 %

59. Side of an equilateral triangle is 10cm. A square of perimeter same as to the perimeter of an equilateral triangle is drawn. What will be the side of the square?

(1) 30 cm

(2) 8 cm

(3) 7.5 cm

(4) 10 cm

SPACE FOR ROUGH WORK

55.

حل کیجئے۔

$$27 \div 3 + 6 \times 5 = ?$$

15 (2) 75 (1)

$\frac{27}{33}$ (4) 39 (3)

56. ریاض نے پتلون کے لئے سو امیٹر اور قمیص کے لئے پونے دو میٹر کپڑا لیا۔ تو بتائیے اس نے کل کتنا میٹر کپڑا لیا؟

تین (1) سو اتین (2)


ڈھائی (3) پونے چار (4)

57. رمیش کی پیدائش 15 جون 2011ء کو جمعرات کے دن ہوگی تو اس کے پانچویں سالگرہ پر کونسا دن ہوگا؟

منگل (1) جمعرات (2)

بدھ (3) جمعہ (4)

58. مندرجہ ذیل شکل کے خط کشیدہ حصہ کافی صدی معلوم کیجئے۔



25% (2) 2% (1)

75% (4) 6% (3)

59. ایک متساوی الاضلاع مثلث کے ایک ضلع کی لمبائی 10 سینٹی میٹر ہے۔ اس مثلث کے احاطہ کے مساوی احاطہ والے مربع کے

ایک ضلع کی لمبائی کتنی ہوگی؟


30 سینٹی میٹر (1) 8 سینٹی میٹر (2)






7.5 سینٹی میٹر (3) 10 سینٹی میٹر (4)

رف کام کے لیے خالی جگہ

Q. 60. and 61

Answer the following questions with the pictograph given below:

(scale : 1  = 25 students)

| Types of Game | Number of students |
|---------------|--|
| Football |  |
| Cricket |  |
| Basket ball |  |
| Kabaddi |  |
| Kho-Kho |  |

60. How many times are Kabaddi players to the Basket ball players?

- (1) 50 (2) 3
(3) 150 (4) 5

61. By how much is number of Cricket players and Basket ball players less than number of football players and Kabaddi players?






- (1) 75 (2) 50
(3) 25 (4) 150

SPACE FOR ROUGH WORK

سوال نمبر 60 سے 61 :-

مندرجہ ذیل تصویری معلومات کی بنیاد پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیجئے۔

(پیمانہ :- 1 =  25 طلبا)

| کھیل | طلبا کی تعداد |
|-----------|--|
| فٹ بال |  |
| کرکٹ |  |
| باسکٹ بال |  |
| کبڈی |  |
| کھوکھو |  |

60. کبڈی کھیلنے والے طلبا، باسکٹ بال کھیلنے والے طلبا کے کتنے گنا ہے؟

(1) 50 (2) 3

(3) 150 (4) 5

61. کرکٹ اور باسکٹ بال کھیلنے والے طلبہ کی تعداد یہ فٹ بال اور کبڈی کھیلنے والے طلبہ کی تعداد سے کتنی کم ہے؟

(1) 75 (2) 50

(3) 25 (4) 150

رف کام کے لیے خالی جگہ

62. How many times are the number of edges of cuboid to the number of surfaces of cuboid?
- (1) double (2) three times
(3) half (4) four times
63. In Nana Patil's farm house, there are 300 sacks of grains. Out of which 35% sacks are of wheat, 20% sacks are of Jowar, 15% sacks are of Tur dal and remaining are the sacks of Soyabeans. Find the number of Soyabean sacks at the farm house.
- (1) 60 (2) 120
(3) 105 (4) 90
64. Find the length of wire required to fence 3 times the two sides of a square shaped ground having area 144 sq. m.
- (1) 48 m (2) 14.4 m
(3) 72 m (4) 24 m
65. In the month of May, two and a quarter lakhs tourists visited Mahabaleshwar and three quarter lakhs visited Ajanta - Verul caves. How many more tourists visited Mahabaleshwar than Ajanta - Verul caves?
- (1) 75,000 (2) 1,25,000
(3) 3,00,000 (4) 1,50,000

SPACE FOR ROUGH WORK

62. مستطیلی استوانے کے کناروں کی تعداد یہ مستطیلی استوانے کے سطحوں کی تعداد کے کتنے گنا ہوتی ہے؟

(1) دو گنا (2) تین گنا

(3) نصف گنا (4) چار گنا

63. اکبر علی کی دوکان میں اناج کی 300 بوریاں رکھی ہوئی ہیں۔ جس میں 20% جوار کی بوریاں، 35% گہوں کی بوریاں، 15% دال کی بوریاں اور بچی ہوئی بوریاں چاول کی ہیں۔ تو اس کے پاس چاول کی کتنی بوریاں ہیں؟

(1) 60 (2) 120

(3) 105 (4) 90

64. 144 مربع میٹر رقبہ والے مربع نما میدان کے دو جانب تین پھیرے والے تار کی باڑ لگانے کے لئے کتنی لمبائی کی تار درکار ہوں گی؟

(1) 48 میٹر (2) 14.4 میٹر

(3) 72 میٹر (4) 24 میٹر

65. مئی مہینے میں مہابلیشور میں سو ا دو لاکھ سیاح سیر و تفریح کے لیے آئیں اور اجنٹا ایلورہ کے غار دیکھنے پون لاکھ سیاح پہنچے۔ تو بتائیے مہابلیشور میں سیاحوں کی تعداد کتنی زیادہ تھیں؟

(1) 75,000 (2) 1,25,000

(3) 3,00,000 (4) 1,50,000

رف کام کے لیے خالی جگہ

66. 552 minutes = hours and minutes.
(1) 9, 52 (2) 5, 52
(3) 9, 12 (4) 5, 12
67. 2400 papers = Ream papers.
(1) 100 (2) 75
(3) 50 (4) 5
68. Ramu purchased 45 litres milk with the rate Rs. 35 per litre. He sold all the milk with profit Rs. 315. Find the selling price of milk per litre.
(1) Rs. 37 (2) Rs. 38
(3) Rs. 42 (4) Rs. 44
69. A wire measuring 15 m, 50 cm was divided equally into 10 parts. What is the length of each part?
(1) 155 cm (2) 155 m
(3) 150 cm (4) 150 m
70. Akash purchased a cycle for Rs. 3250 and sold it for Rs. 2375 after a year. Did he make profit or loss and how much?
(1) Profit of Rs. 775 (2) Profit of Rs. 875
(3) Loss of Rs. 775 (4) Loss of Rs. 875

SPACE FOR ROUGH WORK

66. 552 منٹ = _____ منٹ _____ گھنٹے۔

- (1) 9, 52
(2) 5, 52
(3) 9, 12
(4) 5, 12

67. 2400 کاغذات یعنی کتنے رم کاغذ؟

- (1) 100
(2) 75
(3) 50
(4) 5

68. رامونے 35 روپے فی لیٹر کے حساب سے 45 لیٹر دودھ خریدی کیا۔ اور وہ پورا دودھ 315 روپے نفع لیکر فروخت کیا۔ تو دودھ کی فی لیٹر قیمت فروخت کتنی ہوگی؟

- (1) 37 روپے
(2) 38 روپے
(3) 42 روپے
(4) 44 روپے

69. 15 میٹر، 50 سینٹی میٹر لمبائی کے تار کے 10 مساوی حصے کرنے پر ہر ایک حصے کی لمبائی کتنی ہوگی؟

- (1) 155 سینٹی میٹر
(2) 155 میٹر
(3) 150 سینٹی میٹر
(4) 150 میٹر

70. 3250 روپے میں خریدی ہوئی سائیکل اسد نے ایک سال بعد 2375 روپے میں فروخت کی۔ تو اسے اس سودے میں کتنا نفع یا نقصان ہوا؟

- (1) 775 روپے نفع
(2) 875 روپے نفع
(3) 775 روپے نقصان
(4) 875 روپے نقصان

رف کام کے لیے خالی جگہ

71. If divisor = 105, Quotient = 4250, Remainder = 75, then dividend = ?

(1) 446250

(2) 446325

(3) 446225

(4) 446625

72. What will be the cost of the cloth purchased at the rate Rs. 52 per meter for 25 students each requiring one and a half meter ?

(1) 1950

(2) 1850

(3) 2050

(4) 2150

73. Solve :

$$\frac{7}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = ?$$

(1) $\frac{10}{3}$

(2) $\frac{11}{4}$

(3) $\frac{19}{16}$

(4) $\frac{14}{11}$

74. Kerela express starts at 4 : 10 in the morning from Nagpur and reaches Tiruvananthapuram at 14 : 15 the next day. How much time does it take to travel from Nagpur to Tiruvananthapuram?

(1) 34 hours 5 minutes

(2) 34 hours

(3) 22 hours 5 minutes

(4) 26 hours 15 minutes

SPACE FOR ROUGH WORK

71. مقسوم علیہ = 105، خارج قسمت = 4250 اور باقی = 75 ہو تو مقسوم کتنا ہوگا؟

446325 (2) 446250 (1)

446625 (4) 446225 (3)

72. 25 طلباء کو دیرٹھ میٹر فی طالب علم کے حساب 52 روپے فی میٹر قیمت سے خریدے ہوئے کپڑے کی کل قیمت کیا ہوگی؟

1850 روپے (2) 1950 روپے (1)

2150 روپے (4) 2050 روپے (3)

73. حل کیجئے۔

$$\frac{7}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = ?$$

$\frac{11}{4}$ (2) $\frac{10}{3}$ (1)

$\frac{14}{11}$ (4) $\frac{19}{16}$ (3)

74. ناگپور سے صبح 4:10 بجے نکلنے والی کیرل ایکسپریس دوسرے دن 14:15 بجے ترواننت پورم کو پہنچتی ہے۔ تو ناگپور سے

ترواننت پورم سفر کے لئے کتنا وقت درکار ہوا؟

34 گھنٹے 5 منٹ (1) 34 گھنٹے (2)

22 گھنٹے 5 منٹ (3) 26 گھنٹے 15 منٹ (4)

رف کام کے لیے خالی جگہ

75. In Saraswati Vidyalay, 24 packets of milk having each 500ml of milk was bought and was heated. It was distributed equally among 60 students. Find out how much ml of milk was given to each student.

(1) 250 ml

(2) 150 ml

(3) 200 ml

(4) 175 ml

SPACE FOR ROUGH WORK

75. مولانہ آزاد ہائی اسکول میں 500 ملی لیٹر دودھ کی 24 تھیلیاں لائی گئی۔ دودھ گرم کر کے 60 طلبہ کو یکساں تقسیم کیا گیا۔ تو ہر ایک طلبہ کو کتنے ملی لیٹر دودھ ملا؟

- (1) 250 ملی لیٹر
(2) 150 ملی لیٹر
(3) 200 ملی لیٹر
(4) 175 ملی لیٹر

رف کام کے لیے خالی جگہ

رف کام کے لیے خالی جگہ